



## سوال

(122) قبر میت پر گرجائے تو اسے دوبارہ درست کرنا؟

## جواب

السلام علیکم ورحمة اللہ وبرکاتہ

میرے والد صاحب تقریباً پندرہ دو ماہ پسلے فوت ہوئے تھے۔ ان کی قبر اندر کی طرف گرگئی تھی۔ اور کلی سلیں میت کے اوپر گئی تھیں۔ ہم نے اسی طرح قبر صحیح حالت میں کر دی۔ یہ تقریباً پندرہ روز پہلے کی بات ہے۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا قبر کو دوبارہ کھود کر ان کے اوپر سے وزن اٹھا کر پھر دوبارہ قبر بنادی جائے یا لیے ہی رہنے دیا جائے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کیا مٹی ٹلنے سے پسلے قبر پر سلیں یا پھٹے ڈانا ضروری ہے یا اسی طرح میت پر مٹی ڈال دی جائے؟

## الجواب بعون الوہاب بشرط صحة السؤال

وعلیکم السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ!

الحمد لله، والصلوة والسلام على رسول الله، أما بعد!

آپ کے والد صاحب مرحوم کی قبر جس حالت میں ہے۔ اسی میں رہنے دیں۔ تجدید کی ضرورت نہیں۔ معاملہ اللہ کے سپردگریں۔ اس کے ہاں نیکی و تقویٰ کی بنیاد پر بہت ہی آسانی و کشادگی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی قبر منور فرمائے۔ آمین۔

مٹی اور میت کے درمیان کوئی شے حائل ہونی چاہئے۔ اسی طرح مٹی ڈانا احترام میت کے منافی ہے۔ جس کہ

عمرو بن حزم فرماتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے مجھے ایک قبر پر ٹیک لگائے دیکھا، فرمایا：“اس قبر والے کو ایذا نہ دو۔” (مسند احمد، المستدرک للحاکم، ذکر عمراء بن حزم الاصفراۃ رضی اللہ عنہ، رقم ۶۵۰۲)

نیز فرمایا: نبی اکرم ﷺ نے میت کی ہڈی توڑنا زندہ کی ہڈی توڑنے کی طرح ہے۔

ان روایات سے معلوم ہوا احترام میت کے منافی کوئی فعل نہیں ہونا چاہئے۔ احادیث میں وارد لفظ شتن (سامی) بحد (بلغی قبر) کا تفاضاً بھی ہی ہے کہ درمیان میں آڑ ہو۔ عوارضات کی بناء پر بعض میتوں کی نقل مکانی کے واقعات جو احادیث میں موجود ہیں اسی امر کے موئید ہیں۔

هذا عندی والله أعلم بالصواب



جامعة البحرين الإسلامية  
البحرين الإسلامية مجلس البحوث  
مدد فلوي

## فتاویٰ حافظ ثناء اللہ مدینی

جلد: 3، کتاب الجنائز: صفحہ: 169

محمد فتوی